

جو گراہک ڈی بی ٹی کا انتخاب نہ کریں ان کی جانب سے آدھار کارڈ / ای - کے وائی سی کا استعمال کرتے ہوئے کھاتہ کھولنے کا عریضہ

محترم،

برانچ منیجر \_\_\_\_\_ شاخ

ایچ ڈی ایف سی بینک لمیٹیڈ ("بینک" اصطلاح میں بینک کے جانشین اور نامزد شامل ہوں گے)

موضوع: آدھار - باخبر منظوری

1. میں رضاکارانہ طور پر آدھار او وی ڈی کے وائی سی یا ای - کے وائی سی کا انتخاب کر رہا ہوں اور میرا آدھار نمبر، ورچول آئی ڈی، ای۔آدھار، ایکس ایم ایل، ماسکڈ آدھار، آدھار تفصیلات، شخصی معلومات، شناختی معلومات، آدھار رجسٹرڈ موبائل نمبر، چہرے کی تصدیق سے حاصل شدہ معلومات، اور/یا بائیومیٹرک معلومات جمع کر رہے ہیں (مجموعی طور پر "معلومات")۔

2. مجھے بینک نے اطلاع دی ہے کہ:

(i) آدھار جمع کرنا لازمی نہیں ہے اور میرے پاس کے وائی سی اور شناخت مقرر کرنے کے لئے متبادل ہیں جن میں سرکاری طور پر منظور شدہ کاغذات جمع کرتے ہوئے فزیکل کے وائی سی بھی شامل ہے۔ مجھے تمام متبادل پیش کئے گئے تھے۔  
(ii) ای - کے وائی سی / توثیق / آف لائن تصدیق کے لئے بینک آدھار نمبر اور / یا بائیومیٹرک تفصیلات سی آئی ڈی آر / یو آئی ڈی اے آئی سے بانٹے گا اور سی آئی ڈی آر / یو آئی ڈی اے آئی، بینک سے توثیقی معلومات، آدھار تفصیلات، شخصی معلومات، رجسٹرڈ موبائل نمبر، شناختی معلومات بانٹے گا جن کا استعمال نمبر 3 میں درج خبر کردہ مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

3. میں بینک ( اور اس کی سروس مہیا کرنے والوں کو) درج ذیل باخبر مقاصد کے لئے مجاز بناتا ہوں اور منظوری دیتا ہوں:

(i) پی ایم ایل ایکٹ 2002 اور اس کے تحت ضوابط کے وائی سی اور مدتی کے وائی سی کی کارروائی اور آر بی آئی کی ہدایات کے مطابق یا بینک کی یا بینک کے ذریعے تمام حالیہ اور مستقبل کے تعلقات کے تمام کھاتوں، سہولیات، خدمات اور رشتوں کے لئے میری شناخت کرنے، شناختی کارروائی انجام دینے کے لئے آف لائن تصدیق یا ای - کے وائی سی یا ہاں / نہیں تصدیق شخصی یا دیگر تصدیق / توثیق / شناخت جن کی اجازت لاگو قوانین کے تحت ہو۔

(ii) معلومات کو جمع کرنا، بانٹنا، اسٹور کرنا، محفوظ کرنا، معلومات کو استعمال کرنا اور ریکارڈ برقرار رکھنا اور ریکارڈ کی تصدیق / توثیق / شناخت کرنا (a): درج بالا باخبر مقاصد کے لئے (b) ضابطے اور قانونی رپورٹنگ کے لئے اور فائلنگ کرنے کے لئے (c) عائد ہونے والے قوانین کے تحت ضرورت پڑنے پر  
(iii) آدھار اینیبلڈ پیمنٹ سروس (ای ای پی ایس) کے لئے کھاتہ جاری کرنا  
(iv) شناختی مقاصد کے لئے جن میں قانونی کورٹ کے سامنے، کسی اتھارٹی یا ثالثی کے لئے ریکارڈ، اجازت کی تفصیل، معلومات، یا تصدیق، توثیق اور شناخت کے لئے پیش کرنا۔

4. میں اس بات سے واقف ہوں کہ میرا آدھار نمبر اور بنیادی بائیومیٹرک معلومات کو ذخیرہ نہیں کیا جائیگا اور نہ ہی بانٹا جائیگا سوائے اس کے کہ اس معلومات کو سینٹرل آئیڈنٹیفیکیشن ڈاٹا ریپوزیٹری (سی آئی ڈی آر) میناور قانونی ضرورت کے مطابق جمع کیا جائیگا۔ میں نے خود ہی میرے آدھار رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول او ٹی پی کا استعمال کرتے ہوئے ای۔آدھار ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ میرے ذریعے فراہم کردہ معلومات غیر درست پائے جانے پر یا کسی دستاویز غلط ہونے پر میں یچ ڈی ایف سی بینک یا اس کے کسی افسر کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔

5 معلومات جمع کرنے کے بارے میں درج بالا منظوری اور مقصد مجھے میری مقامی زبان میں سمجھا دیا گیا ہے۔

گراہک کا نام: \_\_\_\_\_ دستخط: \_\_\_\_\_

تاریخ: \_\_\_\_\_